

What Man Thinks What Allah Knows

What Man Thinks - What Allah Knows As Mentioned in AlQuran

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

AlBaqarah2:214 Man thinks he will enter Jannat without worldly trial

کیا خیال کرتے ہو تم کہ داخل ہو جاؤ گے جنت میں جبکہ ابھی نہیں پیش آئیں تم کو (مشکلیں) ان لوگوں کی سی جو ہو گزرے تم سے پہلے۔ پہنچی تھیں ان کو بڑی سختیاں اور تکلیفیں اور ہلا دیئے گئے تھے وہ۔

أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَاءُ وَزُلْزَلُوا

AalImran3:142 Man thinks he will enter Jannat without worldly trial

کیا تم سمجھتے ہو کہ داخل ہو جاؤ گے جنت میں حالانکہ ابھی نہیں معلوم کیا اللہ نے ان لوگوں کو جنہوں نے جہاد کیا تم میں سے اور (نہ ہی) معلوم کیا ثابت قدم رہنے والوں کو۔

أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّادِرِينَ

AalImran3:78 Some people distort Book of Allah to deceive other pepole

اور بلاشبہ ان میں ایک گروہ ہے جو مروڑتے ہیں اپنی زبانوں کو کتاب کے (پڑھنے میں) تاکہ تم سمجھو کہ وہ کتاب میں سے ہے حالانکہ نہیں ہوتا وہ کتاب میں سے۔ اور کہتے ہیں کہ وہ اللہ کی طرف سے ہے حالانکہ نہیں ہے وہ اللہ کی طرف سے۔ اور بولتے ہیں اللہ پر جھوٹ اور وہ جانتے ہیں۔

وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوَنَ أَسَانِيَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ

AalImran3:169 Those who are killed for the cause of Allah are not dead

اور نہ سمجھنا ان لوگوں کو جو قتل کیے گئے اللہ کی راہ میں کہ وہ مردہ ہیں۔ بلکہ زندہ ہیں وہ اپنے رب کے نزدیک ان کو رزق دیا جاتا ہے۔

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أحيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ

AalImran3:178,180,188 Is holding back, miserliness, respite good for people

اور نہ گمان کریں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا کہ یہ جو مہلت دینے جاتے ہیں ہم ان کو تو یہ بہتر ہے ان کے لئے۔ درحقیقت مہلت دیتے ہیں ہم انکو تاکہ وہ بڑھ جائیں گناہ میں۔ اور ان کے لئے ہے عذاب ذلت والا۔

وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا أُمِّمُوا لَهُمْ خَيْرٌ لِّأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا أُمِّمُوا لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا وَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ

اور نہ گمان کریں وہ لوگ جو نکل کرتے ہیں اس میں جو عطا فرمایا ہے انہیں اللہ نے اپنے فضل سے کہ وہ (نکل) بہتر ہے ان کے حق میں۔ بلکہ وہ برا ہے ان کے لئے۔

وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ لَّهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ

نہ خیال کرنا تم کہ وہ لوگ جو خوش ہوتے ہیں اس پر جو انہوں نے کیا اور چاہتے ہیں کہ ان کی تعریف کی جائے اس پر جو نہیں انہوں نے کیا۔ تو نہ خیال کرنا تم ان کیلئے کہ انہیں پھسکارا ہے عذاب سے۔ اور انکو عذاب ہوگا دردناک۔

لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا آتَوْا وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا فَلَا تَحْسَبْتَهُمْ بِمَفَازَةٍ مِنَ الْعَذَابِ وَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

AlAaraf7:30 Friends of Shaitan think they are guided

ایک فریق کو اس نے ہدایت دی اور ایک فریق کہ ثابت ہو چکی ان پر گمراہی۔ یقیناً یہ وہ ہیں جنہوں نے بنا لیا ہے شیطانوں کو رفیق اللہ کے سوا اور وہ گمان کرتے ہیں کہ یقیناً وہی ہدایت یافتہ ہیں۔

فَرِيقًا هَدَىٰ وَ فَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلَالَةُ إِنَّهُمْ اتَّخَذُوا الشَّيْطِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُّهْتَدُونَ

AlAnfaal8:59 Disbelieve suppose they can outstrip Allah

اور نہ گمان کریں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا کہ وہ بازی لے گئے ہیں۔ بیشک وہ نہیں عاجز کر سکتے (اللہ کو)۔

وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ

Ibrahim14:42 Allah is not unaware of what the wrong doers do

اور نہ سمجھنا کہ اللہ بیخبر ہے ان سے جو کام کر رہے ہیں یہ ظالم لوگ۔ درحقیقت وہ مہلت دے رہا ہے انکو اس دن کے لئے کہ پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی جس میں آسکھیں۔

وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهُ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ

AlKahaf18:102,104 People take others as protecting friends not Allah

کیا خیال کرتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا کہ بنالیں گے وہ میرے بندوں کو میرے سوا کارساز۔ یقیناً تیار کر رکھی ہے ہم نے جہنم کافروں کے لئے بطور ممانی۔

أَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ يَتَّخِذُوا عِبَادِي مِنْ دُونِي أَوْلِيَاءَ ۗ إِنَّا أَعْتَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ نُزُلًا

یہ وہ ہیں کہ ضائع ہو گئی جنگی جدوجہد دنیا کی زندگی میں۔ اور وہ یہ سمجھے ہوئے ہیں کہ وہ کر رہے ہیں اچھے کام۔

الَّذِينَ ضَلَّ سَعِيَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا

AlMominoon23:55,56,115 Abundance of wealth and sons is a test

کیا یہ خیال کرتے ہیں کہ یہ جو مدد دیتے ہیں ہم انکومال سے اور بیٹوں سے۔ تو جلدی کر رہے ہیں ہم انکے لئے بھلائی میں۔ نہیں بلکہ یہ سمجھتے ہی نہیں۔ کیا تم سمجھتے ہو کہ بس ہم نے پیدا کیا ہے تمکو بے مقصد اور یہ کہ تم ہماری طرف نہیں لوٹو گے۔

أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا مُمِدُّهُمْ بِهِ مِنْ مَّالٍ وَبَنِينَ نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ ۗ بَلْ لَا يَشْعُرُونَ
أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ

AnNoor24:39 Evil deeds are as a mirage in a desert

اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا انکے اعمال جیسے کہ سراب صحرا میں سمجھے اسے پیسا جیسے پانی۔ یہاں تک کہ جب آنے اسکے پاس تو نہ پائے اسے کچھ بھی۔ اور موجود پانے اللہ کو اپنے پاس تو وہ پورا پورا چکا دے اسے اس کا حساب۔ اور اللہ ہے جلد حساب کرنے والا۔

وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَاهُمْ كَسْرَابٍ بِقَيْعَةٍ يُحْسِبُهُ الظَّمَانُ مَاءً ۗ حَتَّىٰ إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَوَجَدَ اللَّهَ عِنْدَهُ فَوَفَّاهُ حِسَابَهُ ۗ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ

AlFurqan25:44 Those who hear not or understand are like cattle.

کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ ان میں اکثر سنتے ہیں یا سمجھتے ہیں۔ نہیں یہ ہیں مگر جانوروں کی طرح بلکہ یہ زیادہ گمراہ ہیں سیدھی راہ سے۔

أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ ۗ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ ۗ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا

AlAnkaboot29:2,3 People will be tested in this worldly life

کیا خیال کئے ہوئے ہیں یہ لوگ کہ چھوڑ دیئے جائیں گے یہ کہنے سے کہ ہم ایمان لے آئے اور وہ نہیں آزمائے جائینگے۔ کیا سمجھے ہوئے ہیں وہ لوگ جو کرتے ہیں برے کام کہ یہ

أَحْسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ ۗ - أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ

السَّيِّئَاتِ أَنْ يَسْبِقُونَا ۗ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ

ہمارے قابو سے نکل جائینگے برا ہے جو فیصلہ یہ کرتے ہیں۔

AzZukhuruf43:37,80 Those who hinder others think they are guided

وَأَنَّهُمْ لَيَصْدُوهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهُتَدُونَ - أَمْ يَحْسَبُونَ أَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ ۗ بَلَىٰ وَرُسُلْنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ

اور یہ (شیطان) روکتے رہتے ہیں انکو راستے سے اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہدایت پر ہیں۔ کیا یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم نہیں سنتے انکی پوشیدہ باتوں اور سرگوشیوں کو۔ کیوں نہیں اور ہمارے فرشتے انکے پاس لکھ لیتے ہیں۔

AlJasia45:21 Evil deeds and righteous people are not equal

أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ أَنْ نَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاءً لَّهُمْ نَجْيَاهُمْ وَمَنَاهُمْ ۗ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ

کیا خیال کرتے ہیں وہ لوگ جو کام کرتے ہیں برائیوں کا کہ ہم کر دیں گے انکو ان لوگوں جیسا جو ایمان لائے اور کرتے رہے نیک اعمال۔ کہ یکساں ہوگی انکی زندگی اور انکی موت۔ برا ہے جو یہ حکم لگاتے ہیں۔

AlMujadilah58:18 On the Day of Judgment some people will think they are right

يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا فَيَحْلِفُونَ لَهُ كَمَا يَحْلِفُونَ لَكُمْ وَ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ ۗ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْكَاذِبُونَ

جس دن زندہ کراٹھائے گا انہیں اللہ اکھٹے سبکو تو قسمیں کھائیں گے اس سے جس طرح یہ قسمیں کھاتے ہیں تم سے اور خیال کریں گے کہ وہ کسی چیز پر ہیں۔ سن رکھو یہی ہیں وہ جھوٹے۔

AlQiamah75:3,4 Does man think that Allah shall not assemble his bones

أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَلَّنْ نَجْمَعَ عِظَامَهُ - بَلَىٰ قَدَرِينِ عَلَىٰ أَنْ نُسَوِّيَ بَنَانَهُ

کیا خیال کرتا ہے انسان کہ ہرگز نہیں اکٹھی کریں گے ہم اسکی بکھری ہوئی ہڈیاں۔ کیوں نہیں، ہم قادر ہیں اس پر کہ درست کر دیں اسکی انگلیوں کے پور پور۔

AlBalad90:5-7 Does man think that no one has authority over him

أَيَحْسَبُ أَنْ لَنْ يُقَدَّرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ - يَقُولُ أَهْلَكْتُ مَالًا لُبَدًا - أَيَحْسَبُ أَنْ لَمْ يَرَهُ أَحَدٌ

کیا یہ خیال کرتا ہے کہ ہرگز نہ قابو پائے گا اس پر کوئی۔ کہتا ہے کہ میں نے برباد کر دیا مال بہت سا۔ کیا اسے گمان ہے کہ نہیں دیکھا اسکو کسی نے۔

